

انجيل زاگان ء پڻ
ماس پس

انسان ء غم آنی
شروع



نوشتہ کار: Edward Hughes

السٹر کار: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

اپنائنگ کار: M. Maillot; Tammy S.

مترجم کار: www.christian-translation.com

پیداوار کار: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



الله ٿائنتگ هر ڇيز! ڪڍين الله ٿائنتگ
پيسر مرد, آدم, آ زندگ بو نيام باگ, باغ
ء ايٿن ار ايشياو, آئي جنين, ايو آن جواني
ء وش فرمانبرداري نئن الله ر

مزه ايشيياو, آئي دان ڪه

هاضري ڪي,

يوئڪ

روچ-



"چه خدا نه گشت

که هر درخت ء چه نه
ور؟" مات ايو ء پرسیت۔

"ما یک پل ہچ ء بیدس ہر
پل ورگ کڑت نه کنان۔

آ جباب ء دات۔" اگہ ما آ

پل ء دست زت انت یا

وارتنت ما مرین۔" تہو

نه مرین،" مار جباب دات۔



"تو بوئگ دوست
دارنت الله" ايو
لوئت ميوگ آئ
درخت آ هسكت
تان مار ر وارته
ميوگاو-



ايو ۽ خدا ۽ نا فرماني بچ پيش آ
آدم ۽ پل ۽ ورگ ۽ ايشت. آدم
گوشگ بوتت "نه" من خدا ۽
لوزاني نا فرماني ۽ نه ڪناں.





كديں آدم ر ايو گناہاو، آن زانت آيان نئن اردكين لوجيا
ايشت تها انجير، آن وناران ڈكت ر ڈكت نيام بوچ اچ الله '
ہاضری یاو۔



شم ۽ سارتي ۽ خدا باغ آيات۔ آ زانت که آدم او ايو چه
کتان۔ آدم ايو ۽ ٻير آ ٻير کرت، ايو مار ۽ ٻير آ ٻير
کرت "مار ۽ لعنت انت۔ زالاناں درڊ انت وخته
که زاگ پيدا بهی۔" "آدم، پرچيو، پچيو تو
گناه، زمين لعنت ار ۽ خار اور تسڻيس
او تور مرضی پيد تان گرگ تئ
پر روچ نان او۔"



الله ريچ آدم ر ايو در ا اجب
باگاو, باغ پرچيوا, پچيوا آن
گنہاں يا, آن جتا اچ زندگي-
ديگ نئن الله! يا





الله روکين سگار ٿهائنت آيانا
ڏنا ڪنگ ۽ په. الله آدم او ايو ۽ په
ڪوٽ ۽ پوست ٿهائنت. الله پوست
۽ چه ڪجا پاڙت؟




وہدءسرا، یک ودی خاندان تان ئت آدم ر ایو او آوانی
بچک پیسر، ئت باغبان یک آوانی بچک دومی، قابل، ئت
یک شوانگ۔



یک روچ کین خدا آ جوانین سبزیں تحفہ یارٹ۔ آبیل وتی
جوانین گٹور ء خدا ء تحفہ ء دات۔ خدا آبیل ء تحفہ ہچے
وش بو۔



الله وش نٓت ار نه كين ء انعام او كين
گت باز گصه مگر, ليكن الله گشت,
كننگ "اگر چه تو ء سيدها, مرضى
تو نه بوئگ قبول كنگ بيت?"




کین ۽ گصہ نہ شو۔ چیز
۽ وخت پیش آ اییل ۽ حملہ
کو۔ او آئی آ کشت۔



الله كين ء گوناں ہر كڑت۔ "اييل،
تہی براس كجا انت؟" "من نہ
زانی: كين گوشت۔" چه من وتی
براس ء ہيالدار انت؟" خدا كين ء
سزا دات او آئی ء قابليت ء برت
او آئی آ در بدر كڑت۔



کین خدا ی ہاضری ء چہ ڈنا شو۔ آ آدم او ایو ء یک
جنک ء آرہس کڑتت۔ آ یک خاہوت ء ودینتنت۔ زو، کین ء
نواسگ او بن نواسگ کہ شار
ء دیستنت پر کڑتنت۔



امی وختا، آدم او ایو ء خابوت
زوت ودت۔ روچانی تہاں۔ مردم
مرچی آچہ زیات زندگی بوتنت۔



کدیں آئی، ایشی سیت نٹ ودی بچک، ایو
گشت، "الله دات منا سیت تان بدلنت ایبل" یک
خدائی سیت نٹ مرد کئے زندگ بو 912 سال
رات باز الواداو۔



نيام جهان دنيا, مخلوق زيات گيشتتر ر بوت بدمعاش
اولنوڙا يڪاو, يوئڪ پيروي ڪو اندگه پيڙي
پيلويءَ, الله فيصله ڪرت تان تباه ڪرت--
انسانيت ء راو-- ڪل ء جناور او چڪ--
خدا انسان ء ٽهائنگ



ء پشوان ات--
بله يڪ مرڙدم
خدا ء وش ڪو--



اے مرڈم نوح ات۔ سیت ء یک اولاد، نوح نیک او
بے قصور ات۔ آ خدا ء گونا چلت۔ آ ہم سوچت
ایشی، آئی مسٹ اولاداں تاں عمل کننگ
الله انو، نون الله سوچک تاں
کارمرز نوح نیام
یک باز

عجبر
خاص راہو۔



انسان ء غم آنى شروع

يك قصه ء خدا ء لوزان، انجيل

تہا دیدگ بوتہا

جينسز 3-6

"تہی لوزانى دلچسپى روشنائى دات۔"

پ س ال م 130:119





انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانى کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آئارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہار دوست کنت او آوتی پاک ء زاگ چیزس ء
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناپانی معافی لوٹے،
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:
جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

